

ایک منظر کا مدرسہ

اضافہ شدہ ایڈیشن

تھوڑی فرصت والوں کیلئے خاص تحفہ



ذوالقعدة

شیخ المشائخ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمہ اللہ

تالیف

شیخ العرب عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ

خانقاہ امدادیہ اہل شرفیہ: کلکتہ، اقبال کراچی



نقشِ قدمِ نبیؐ کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

ایک منٹ کا مدرسہ

تھوڑی فرصت والوں کے لیے خاص تحفہ

ازافادات

شیخ الشیخ محمد السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمہ اللہ

مرتب

شیخ العرب عارف باللہ محمد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمہ اللہ

حسب ہدایت و ارشاد

حکیم الامت حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمہ اللہ

محبت تیرا صفت ہے شرمیں تیرے نازوں کے
جو میں نہ لکھتا ہوں خزانے تیرے نازوں کے

بہ فیض صحبت ابرار یہ دردِ محبت سے
بہ اُمیدِ نصیحت دوستوں اسکی اشاعت سے

انتساب

سَيِّحُ الْعَرَبِ عَارِفٌ بِاللُّغَةِ عَجْمَانَةٍ حَضْرَتِ اَقْدَنْ مَوْلَانَا شَاهِ حَكِيمٌ مُحَمَّدٌ خَيْرٌ صَاحِبِ رَعِيَّتِنَا

کے ارشاد کے مطابق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ تصانیف و تالیفات

مُحَلِّ السُّنَنِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا شَاهِ اِبْرَاهِيمَ الْحَقِّ صَاحِبِ رَعِيَّتِنَا

اور

حَضْرَتِ اَقْدَنْ مَوْلَانَا شَاهِ عَبْدِ الْغَنِی صَاحِبِ رَعِيَّتِنَا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ

اور

حَضْرَتِ مَوْلَانَا شَاهِ مُحَمَّدٍ اَحْمَدٌ صَاحِبِ رَعِيَّتِنَا

کی

صحبتوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں

ضروری تفصیل

- کتاب کا نام : ایک منٹ کا مدرسہ
- ازافادات : محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- مرتب : شیخ العرب والعم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ
- اضافہ ترتیب : مولانا عبدالرؤف صاحب معین نائب ناظم مدرسہ اشرف المدارس، ہر دوئی، یوپی
- تاریخ اشاعت : ۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ مطابق ۰۲ مارچ ۲۰۱۶ء، بروز بدھ
- زیر اہتمام : شعبہ نشر و اشاعت، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال، بلاک ۲، کراچی
- پوسٹ بکس: 11482 رابطہ: +92.21.34972080، +92.316.7771051
- ای میل: khanqah.ashrafia@gmail.com
- ناشر : کتب خانہ مظہر لہی، گلشن اقبال، بلاک نمبر ۲، کراچی، پاکستان

قارئین و مجلین سے گزارش

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کراچی اپنی زیر نگرانی شیخ العرب والعم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی شائع کردہ تمام کتابوں کی ان کی طرف منسوب ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کی تحریری اجازت کے بغیر شائع ہونے والی کسی بھی تحریر کے مستند اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہونے کی ذمہ داری خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کی نہیں۔

اس بات کی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ شیخ العرب والعم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کی طباعت اور پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ! اس کام کی نگرانی کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کے شعبہ نشر و اشاعت میں مختلف علماء اور ماہرین دینی جذبے اور لگن کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔

(مولانا) محمد اسماعیل

نبیرہ و خلیفہ مجاز بیعت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ
ناظم شعبہ نشر و اشاعت، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

ایک منٹ کا مدرسہ

(بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر)

آج کل تمام عالم میں حضرت والا ہر دوئی کا جہاں بھی سفر ہوتا ہے ایک منٹ کا مدرسہ حضر اور سفر میں جاری کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور عملاً اس کی مشق بھی کراتے ہیں، کیوں کہ امت مسلمہ میں غفلت کا مرض بڑھ رہا ہے، زیادہ دیر کا وعظ سننے سے گھبراتے ہیں اور اکثر اوقات دفتر کی ملازمت یا تجارت کی مصروفیت بھی ان کے لیے طویل وعظ سننے سے مانع بنتی ہے اس لیے یہ آسان طریقہ ”ایک منٹ کا مدرسہ“ بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر یا دونوں وقت جاری کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ ایک امتی بھی محروم نہ رہے اور دین کی ضروری ضروری باتوں سے آگاہی نصیب ہو جاوے۔ حضرت والا اس ایک منٹ میں حسب ذیل مضمون بیان کرنے کا مشورہ دیتے ہیں:

۱) نماز کی سورتوں اور دعاؤں اور تسبیحات کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جاوے جس کی ترتیب نماز کی ترتیب کے مطابق ہو یعنی پہلے **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** کے معنی، پھر **ثَنَاءٌ**، پھر **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ**، پھر **بِسْمِ اللّٰهِ**، پھر سورہ فاتحہ وغیرہ۔

برسوں نماز پڑھتے ہوئے ہو جاتے ہیں لوگوں کو اپنی نمازوں کی تسبیحات اور دعاؤں اور اذکار کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا، جس سے نماز میں دل نہیں لگتا، ورنہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اگر اس کا ترجمہ معلوم ہو اور اس کی طرف دھیان رکھا جاوے تو نماز کا لطف بڑھ جاوے اور نماز میں یکسوئی اور حضوری بھی عطا ہو کیوں کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ

النَّفْسُ لَا تَتَوَجَّهُ إِلَى شَيْعَيْنِ فِي إِنْ وَاحِدٍ

فلسفہ کا قاعدہ ہے کہ نفس ایک وقت میں دو شے کی طرف توجہ نہیں کر سکتا پس جب اپنے رب سے مناجات کے مفہوم کا خیال رکھے گا تو غیر اللہ کی طرف خیال نہیں جاسکے گا۔ چنانچہ نماز کو حسین بنانے کی تعلیم اس حدیث میں ہے کہ **إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَدِّعٍ**^۱ جب نماز پڑھو تو اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو شاید دوسری نماز تک زندگی نہ ہو۔ تو جو یہ سوچ کر نماز پڑھے گا وہ اس نماز کو کس قدر حسین اور اچھی پڑھے گا! یہ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کا جز ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے اس جز کی شرح اس طرح فرماتے ہیں کہ **مُؤَدِّعٍ أَيْ لِمَا سَوَى اللَّهِ بِالْإِسْتِغْرَاقِ فِي مَنْاجَاتِ مَوْلَاةٍ**^۲ اپنے مولیٰ کی مناجات میں غرق ہونے کے سبب اپنے قلب کو غیر اللہ سے خالی کر لو۔

(۲) ایک سنت ایک دن بتائی جائے مثلاً نماز میں قیام کی ”گیارہ“ سنتوں سے ایک سنت یہ بتائی جاوے کہ سیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا، دوسرے دن یہ بتانا کہ کل سیدھے کھڑے ہونے کی سنت بتائی گئی تھی آج یہ سنت بتائی جا رہی ہے کہ پیروں کی انگلیاں بھی کعبہ شریف کی طرف ہوں، تیسرے دن اس طرح بتائیں کہ پہلے دن اور دوسرے دن کی یہ سنت بتائی گئی سیدھے کھڑے ہونا اور پیروں کی انگلیوں کا قبلہ رُو ہونا آج تیسرے دن یہ سنت بتائی جا رہی ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ مقتدی کی تکبیر ادا ہو لیکن شرط یہ کہ امام کی تکبیر تحریمہ سے مقتدی کی تکبیر تحریمہ پہلے نہ ختم ہو ورنہ نماز ہی صحیح نہ ہوگی، اس لیے ساتھ ساتھ سے مراد یہ ہے کہ تاخیر نہ کرے، امام کی تکبیر تحریمہ ختم ہوتے ہی فوراً مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہہ لے۔ اس طرح ایک سنت تین دن اور تین سنت ایک دن کا سلسلہ جاری ہو گا اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔

حضرات! برسوں ہو جاتے ہیں ہماری نمازیں سنت کے مطابق ادا نہیں ہوتی۔ بعض اہل علم کو بھی دیکھا گیا کہ عملی مشق نہ ہونے سے انہیں بھی سنتوں کا استحضار نہیں ہوتا، جب

۱۔ مسند احمد: ۳۸/۳۸۲ (۲۳۳۹۸) مؤسسۃ الرسالۃ

۲۔ مرقاة المفاتیح: ۸/۳۲۰، کتاب الرقاق، دار الفکر بیروت

گزارش کی گئی تو بہت مسرور ہوئے۔ طریق مذکور سے پوری زندگی سنت کے مطابق ہو سکتی ہے۔ سنت کی عظمت پر احقر کا ایک شعر ہے۔

نقش قدم نبی ﷺ کے ہیں جنت کے راستے

اللہ ﷻ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

ہر مسجد کے ائمہ حضرات اگر ایک منٹ کا مدرسہ اسی طرح جاری فرمادیں تو نماز، وضو، کھانے پینے، سونے جاگنے، مسجد میں آنے جانے کی تمام سنتوں کا علم ہو سکتا ہے۔ ایک سال میں ۳۶۰ سنتیں یاد ہو سکتی ہیں۔

(۳) بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ بتایا جاوے جو جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہے تاکہ اس سے توبہ کی توفیق ہو۔

(۴) گناہوں کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں جن کو ”جزاء الاعمال“ میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے ہر روز ایک نقصان کو بتادیں، بعد میں گناہوں سے آخرت کے چند نقصانات بھی روزانہ ایک ایک بیان کر دیں۔

(۵) نیکیوں کے فوائد جو دنیا میں عطا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بتا دیا جاوے اور آخر میں نیکیوں سے آخرت کا ایک ایک فائدہ روزانہ بتا دیا جاوے۔ ان پانچ باتوں کو ایک منٹ میں بیان کر دے۔

یہ ایک منٹ کا مدرسہ ہے۔ شاید کوئی بھی ایک منٹ کے مدرسہ سے محروم نہ رہے گا کیوں کہ مشغول سے مشغول آدمی بھی ایک منٹ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد درس تفسیر یا درس حدیث کا جو سلسلہ علمائے کرام اور ائمہ کرام کا ہوا اس کو جاری فرمائیں، جن کے پاس وقت ہو گا وہ اس میں شرکت کریں گے اور جن کے پاس وقت نہ ہو گا وہ ایک منٹ کے مدرسہ سے نفع اٹھالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک منٹ کا مدرسہ سارے عالم میں جاری فرمائیں اور امت مسلمہ کو اس سے مستفیض فرمائیں اور اس کے نفع کو عام و تمام فرمائیں اور اس کے موجد و مؤلف کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنادیں، آمین۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ایک منٹ کے مدرسہ کا نمونہ اور اس کے اسباق

آسانی کے لیے ایک منٹ کے مدرسہ کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اسی طرز پر اس مدرسہ کو جاری کرنا آسان ہو جائے۔ اسمائے کتب جن سے تیار کیا گیا: نور الایضاح، جزاء الاعمال، تعلیم الدین، حیات المسلمین، آئینہ نماز۔ نماز کی جو سنتیں مردوں کے لیے خاص ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے لکھ دیا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہیں اور بعد کے اسباق میں عورتوں کی نماز کا فرق بھی بیان کر دیا گیا ہے۔

سبق نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اللّٰہُ اَكْبَرُ کے معنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں بلکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔

(۲) ایک سنت

نماز کے قیام کی سنتوں سے ایک سنت یہ ہے کہ قبلہ رُوسیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی پر حقارت سے ہنسنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کے نقصانات سے جو دنیا میں ملتے ہیں ایک یہ ہے کہ گناہ کی نحوست سے بندہ علم و دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی اور عمل صالح کے وہ فوائد جو دنیا ہی میں عطا ہوتے ہیں ایک یہ کہ رزق میں برکت عطا ہوتی ہے یعنی کبھی رزق میں ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ عطا ہوتی ہے۔

سبق نمبر ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اے اللہ! ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قیام کی سنتوں سے ایک سنت قبلہ رُوسیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا بتائی گئی تھی۔ آج کا سبق پیروں کی انگلیاں بھی قبلہ رُورکھنا اور چار انگلی کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی کو طعنہ دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے اگرچہ بظاہر رزق کثیر نظر آئے لیکن اس کا نفع قلیل ہو جاتا ہے مثلاً بیماری و پریشانی و اسراف وغیرہ پر خرچ ہو گیا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت اور عبادت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طرح طرح کی برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔

سبق نمبر ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَبِحَمْدِکَ اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔

(۲) ایک سنت

نماز میں قیام کی پہلی سنت قبلہ رُوسیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ دوسری سنت پیروں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رُورکھنا۔ اور آج کا سبق تیسری سنت مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا۔

فائدہ: مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہوگئی تو اقتدا صحیح نہ ہوگی۔

(طحاوی)

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو بڑے لقب سے پکارنا جیسے اواندھے، اولنگڑے، اوموٹے وغیرہ۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دشواری سے نجات عطا فرماتے ہیں۔

سبق نمبر ۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَتَبَارَكَ اَمْرُکَ اور تیرا نام بہت برکت والا ہے۔

(۲) ایک سنت

نماز میں قیام کی دو سنتیں بیان ہوئیں: (۱) پیروں کو قبلہ رو رکھنا۔ (۲) مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا۔ اور آج کا سبق سنت (۳) تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ (یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے)

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے بدگمانی کرنا، یعنی بلا دلیل شرعی کسی کو بُرا سمجھنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے خاص کر اللہ والوں کی صحبت سے وحشت اور گھبراہٹ بڑھتی جاتی ہے اور یہ شخص اللہ والوں کی صحبت کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت و نیکی سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مقاصد میں آسانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی فرمادیتے ہیں۔

سبق نمبر ۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَتَعَالَى جَدُّكَ اور تیری شان بہت بلند ہے۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قیام کی یہ سنتیں بیان ہوئی تھیں: (۱) مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا۔ (۲) تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ اور آن کا سبق سنت نمبر ۳) تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کا عیب تلاش کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ گار کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی اور طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی برکت سے زندگی مزے دار ہو جاتی ہے، کھلی آنکھوں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ ایسی پُر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی کہ اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔

سبق نمبر ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَلَا اِلٰهَ اِغْرِیْبُکَ اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

(۲) ایک سنت

نماز میں قیام کی سنتیں جو کل بیان ہوئیں: (۱) تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ (۲) ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا۔ یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید ہے ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کو بُرائی سے یاد کرنا جس کو اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ دل میں ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت و نیک اعمال سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے پھولتے ہیں اور نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔

سبق نمبر ۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَعُوْذُ کے معنی ہیں پناہ چاہتا ہوں میں۔

(۲) ایک سنت

نماز میں قیام کی دو سنتیں جو کل بیان ہوئیں: (۱) تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ (۲) انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) ہاتھ باندھتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بلاوجہ کسی کو بُرا بھلا کہنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور جسم کیوں کہ دل کے تابع ہے اس لیے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بظاہر تندرست و قوی کفار بھی صحابہ کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتے تھے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیک اعمال سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن صالح سے تمام آفات اور شر کو دور کر دیتا ہے۔

سبق نمبر ۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

بِاللہ کے معنی ہیں اللہ کی مدد سے

(۲) ایک سنت

کل قیام کی دو سنتیں یہ بیان ہوئی تھیں: (۱) انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند۔ (۲) ہاتھ باندھتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ اور آج کا سبق ہے سنت نمبر (۳) مرد حضرات چھنگلیا اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑیں۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے چغلی کھانا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی توفیق طاعت اور نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ گناہوں کی نحوست سے تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و عبادت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔

سبق نمبر ۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مِنَ الشَّیْطٰنِ کے معنی ہیں شیطان سے۔

(۲) ایک سنت

نماز میں قیام کی دو سنتیں جو کل بیان ہوئیں: (۱) ہاتھ باندھتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ (۲) مرد حضرات چھنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑیں۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) مرد درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھیں۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے تہمت لگانا یعنی کسی میں جو عیب نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہوں سے زندگی گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔

سبق نمبر ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

الرَّحِیْمِ کے معنی مردود۔

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّحِیْمِ کا ترجمہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔

(۲) ایک سنت

نماز میں قیام کی دو سنتیں جو کل بیان ہوئیں: (۱) مرد حضرات چھنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑیں۔ (۲) مرد حضرات درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھیں۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے دھوکا دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے جس سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی فرماں برداری سے دل میں ایک ایسا سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے جس کی لذت کے سامنے سلطنت ہفت اقلیم کی راحت ہیچ ہے۔

سبق نمبر ۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

بِسْمِ اللّٰهِ کے معنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قیام کی یہ سنتیں بیان ہوئی تھیں: (۱) مرد حضرات درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھیں۔ (۲) مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) ثناء یعنی

سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ اِنِّحْ یٰطٰہِنَا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے عار دلانا یعنی کسی کو اس کے کسی گناہ یا خطا پر شرمندہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توفیق ہی نہیں ہوتی اور اسی حالت میں موت آجاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت و عبادت کی برکت سے اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے اور ایسے شخص کی اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔

سبق نمبر ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

الرَّحْمٰن کے معنی جو بڑا مہربان ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ کے معنی ہوئے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے۔

(۲) ایک سنت

نماز میں قیام کی دو سنتیں جو کل بیان ہوئیں: (۱) مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ (۲) ثناء یعنی **سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ** اٹھ پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) قرأت کی پہلی سنت تعویذ یعنی **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ** پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ کچھ دن میں اس گناہ کی بُرائی دل سے نکل جاتی ہے پھر شرم و حیا بھی جاتی رہتی ہے جس سے یہ گناہ کھلا گناہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معافی اور مغفرت سے دور ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت سے زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا جس سے اللہ کے ساتھ محبت اور حسن ظن اور بڑھ گیا جس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔

سبق نمبر ۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلرَّحِیْمِ نہایت رحم والا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے معنی ہوئے:

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قیام کی ایک سنت (۱): ثناء یعنی سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ الخ پڑھنا اور قرأت کی ایک سنت (۲) تعویذ یعنی اَعُوذْ بِاللّٰهِ پڑھنا بیان ہوئیں۔ اور آج کا سبق، سنت نمبر (۳) تسمیہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہر گناہ دشمنانِ خدا میں سے کسی کی میراث ہے تو گویا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے اور حدیث میں ہے جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ ان ہی میں شمار ہو گا۔ لہذا توبہ میں دیر نہ کریں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیک اعمال کرنے سے فرشتے مرتے وقت بہشت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔

سبق نمبر ۱۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلْحَمْدُ کے معنی سب تعریفیں۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قرأت کی دو سنتیں بیان ہوئیں: (۱) تعوذ یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ (پڑھنا۔ ۲) تسمیہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) چپکے سے آمین کہنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتاننا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، پس مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی، چاہے لوگ کسی لالچ یا خوف سے بظاہر اس کی تعظیم کریں لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض طاعت و عبادت کا یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کیا کرنا بہتر ہو گا اس خاص عبادت سے وہ تردد اور فکر جاتا رہتا ہے اور اسی جانب رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر نفع و خیر ہو، نقصان کا احتمال بالکل نہیں رہتا، جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔

سبق نمبر ۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

بِسْمِ اللّٰهِ کے معنی اللہ کے لیے خاص ہیں۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے معنی ہوئے: سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قرأت کی دو سنتیں بیان ہوئیں: (۱) تسمیہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا۔
(۲) چپکے سے آمین کہنا۔ اور آج کا سبق قرأت کی سنت نمبر (۳) فجر اور ظہر میں طوالِ مَفْصَل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اَوْسَاطِ مَفْصَل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اور مغرب میں قِصَارِ مَفْصَل یعنی سورہ اِذَا زُلْزِلَتْ سے سورہ ناس تک کی سورتیں پڑھنا۔ (مرآتی الفلاح)

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست نہ صرف گناہ گار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے حتیٰ کہ جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض طاعات و عبادات میں یہ اثر ہے کہ اس سے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں جیسے کہ حدیثِ قدسی ہے کہ اے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنادیا کروں گا۔ (ترمذی شریف)

سبق نمبر ۱۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

رَبِّ کے معنی پالنے والا۔

الحمد للہ رب کے معنی ہوئے: سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو پالنے والا ہے۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قرأت کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) چپکے سے آمین کہنا۔ (۲) فجر اور ظہر میں طووال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ اذا زلزلت سے سورہ ناس تک کی سورتیں پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) فجر کی پہلی رکعت طویل کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کے مال کا نقصان کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور کمی آجاتی ہے بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے کیوں کہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہاں کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا، اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا اور آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے سچ بولیں اور اپنے مال کی حالت ظاہر کر دیں تو دونوں کے لیے ان کے معاملے میں برکت ہوتی ہے۔ (بخاری و مسلم)

سبق نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلْعَلَمِیْنَ کے معنی ہر ہر عالم کا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ کے معنی ہوئے: سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو پالنے والا ہے ہر ہر عالم کا۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قرأت کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) فجر اور ظہر میں طویل مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوسط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ اذ از لزلت سے سورہ ناس تک پڑھنا۔ (۲) فجر کی پہلی رکعت طویل کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) قرآن نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیوں کہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے مثلاً سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ پر۔ اور لعنت فرمائی ہے چور پر اور تصویر بنانے والے پر اور قوم لوط کا عمل کرنے والے پر اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بُرا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہ میں کوئی اور نقصان نہ بھی ہوتا تو یہ کیا تھوڑا نقصان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں یہ شخص داخل ہو گیا۔ نعوذ باللہ

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت و دینداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے۔

سبق نمبر ۱۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

الرَّحْمٰنِ یعنی بڑا مہربان۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قرأت کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) فجر کی پہلی رکعت طویل کرنا۔ (۲) قرآن نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے ان مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں۔ پس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض مالی عبادت سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے اور بُری حالت پر موت نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصہ کو بجھاتا ہے اور بُری موت سے بچاتا ہے۔ (ترمذی)

سبق نمبر ۱۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

الرَّحِیْمِ یعنی نہایت رحم والا۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے معنی ہوئے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

(۲) ایک سنت

کل نماز میں قرأت کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) قرآن نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ (۲) فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) رکوع کی تکبیر کہنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بڑوں کی عزت نہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ روز بروز جو بے برکتی بڑھتی جاتی ہے یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

عبادت کا ایک اثر یہ ہے کہ دعا سے بلا ملتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں ہٹاتی قضا کو مگر دعا، اور نہیں بڑھاتی عمر کو مگر نیکی۔ (ترمذی)

سبق نمبر ۲۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مَلِکِ یعنی جو مالک ہے۔

(۲) ایک سنت

کل نماز کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ (۲) رکوع کی تکبیر کہنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) رکوع میں مردوں کو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بھوکوں اور محتاجوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے شرم و حیا جاتی رہتی ہے اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

سورہ یٰسین پڑھنے سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یٰسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ (دارمی)

سبق نمبر ۲۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

یَوْمَ الدِّیْنِ یعنی روزِ جزا۔

مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ کے معنی ہوئے: جو مالک ہے روزِ جزا کا۔

(۲) ایک سنت

کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) رکوع کی تکبیر کہنا۔ (۲) رکوع میں مردوں کو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) گھٹنوں کو پکڑنے کے دوران مردوں کو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے، دنیوی رنج سے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی اور پھر یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ (شعب الایمان)

سبق نمبر ۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اِیَّاكَ کے معنی آپ ہی کی۔

(۲) ایک سنت

کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) رکوع میں مردوں کو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔
(۲) گھٹنوں کو پکڑنے کے دوران مردوں کو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ اور آج کا سبق سنت
نمبر (۳) رکوع میں پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی
جاندار کی تصویر بنانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بلاؤں اور
مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بعض گناہ گار جو بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ڈھیل ہے اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرہ میں ہے کیوں کہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو دنیا یا
آخرت میں اکٹھی سزا دی جائے گی۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کھانا بہت کھایا کرتا
تھا پھر مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک
آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنت میں۔ (بخاری)

سبق نمبر ۲۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

نَعْبُدُ کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں۔

اِنَّا لَكَ نَعْبُدُ کے معنی ہوئے: ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔

(۲) ایک سنت

کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہونیں: (۱) گھٹنوں کو پکڑنے کے دوران مردوں کو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ (۲) رکوع میں پینڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) مردوں کو رکوع میں پیچھے کو بچھا دینا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر موروٹی کا دعویٰ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے عزت و شرافت کے القاب چھن کر ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں مثلاً نیکی کرنے سے جو شخص نیک و فرماں بردار تہجد گزار کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق، فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہلایا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مریض یا مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا اَبْتَلَاکَ بِہٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِیْلًا

تو وہ مصیبت ہر گز اس شخص کو نہ پہنچے گی۔

نوٹ: یہ دعا آہستہ سے پڑھے تاکہ مبتلائے مصیبت کو اذیت نہ ہو۔

سبق نمبر ۲۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ اَنْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کے معنی ہیں: اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

(۲) ایک سنت

کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوں گی: (۱) پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ (۲) مردوں کو رکوع میں پیٹھ کو بچھا دینا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) مردوں کو سر اور سرین کو برابر رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے خوب تندرست ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھیک مانگنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور آسانی اس کے اعراض کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ فکریں زائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں یہ دعائیں گئی ہیں:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَاَنْكَسَلِ وَاَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَلْجَبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ۝

سبق نمبر ۲۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اِهْدِنَا کے معنی ہیں: بتلا دیجیے ہم کو۔

(۲) ایک سنت

کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) مردوں کو رکوع میں پیٹھ کو بچھا دینا۔ (۲) مردوں کو سر اور سرین کو برابر رکھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) رکوع میں کم سے کم تین بار **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم پر کتر وانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض دعائیں ایسی ہیں کہ مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہیں جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام تین تین بار پڑھنے سے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔

سبق نمبر ۲۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

الصَّیْرَاطُ کے معنی راستہ۔ اِهْدِنَا الصَّیْرَاطُ کے معنی ہوئے: بتلا دیجیے ہم کو راستہ۔

(۲) ایک سنت

کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) مردوں کو سر اور سرین کو برابر رکھنا۔ (۲) رکوع میں کم سے کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) رکوع سے اٹھنے میں امام کو سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور مقتدی کو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور منفرد کو دونوں کہنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا بلکہ زندگی میں جو افعال کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں مثلاً ایک مانگنے والا آخری وقت میں پیسہ مانگتا ہو امر گیا اور ایک گناہ گار کو کلمہ پڑھانے لگے تو کہا یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور مر گیا۔ العیاذ باللہ

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض طاعات سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں۔

سبق نمبر ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلْمُسْتَقِیْمِ کے معنی سیدھا۔

اٰہِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمِ کے معنی ہوئے: بتلا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ۔

(۲) ایک سنت

کل رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) رکوع میں کم سے کم تین بار **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** پڑھنا۔ (۲) رکوع سے اٹھنے میں امام کو **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** اور مقتدی کو **رَبَّنَا ذَكَرَ الْحَمْدُ** اور منفرد کو دونوں کہنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) سجدہ کی تکبیر کہنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ کسی شخص کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو کہا اس کلمہ سے کیا ہو گا میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ ایسے لوگوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔

سبق نمبر ۲۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

صِرَاطَ الَّذِیْنَ رَاسَتْہٗ اَنْ لَّوْگُوں کا۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) رکوع سے اٹھنے میں امام کو سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہٗ اور مقتدی کو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور منفرد کو دونوں کہنا۔ (۲) سجدہ کی تکبیر کہنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

سبق نمبر ۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَنْعَمْتَ کے معنی ہیں: آپ نے انعام فرمایا۔

(۲) ایک سنت

کل سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) سجدہ کی تکبیر کہنا۔ (۲) سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے زنا یعنی بدکاری کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بے زاری ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں۔

سبق نمبر ۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

عَلَيْهِمْ کے معنی ہیں: ان پر۔

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کے معنی ہوئے: راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔

(۲) ایک سنت

کل سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا۔ (۲) پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔ اور آج کا سبق سجدہ کی سنت نمبر (۳) پھر ناک رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے چوری کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمادیتے ہیں۔

سبق نمبر ۳۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

عَبْرَ الْبَغْضُوْبِ عَلَیْہِمُ کے معنی ہیں نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا۔

(۲) ایک سنت

کل سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوں:

(۱) دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا (۲) پھر ناک رکھنا۔ اور آج کا سبق سجدہ کی سنت نمبر (۳) پھر پیشانی رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے ڈکیتی ڈالنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور زمین پر اس کو مقبولیت عطا کی جاتی ہے۔

سبق نمبر ۳۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَلَا الضَّالِّیْنَ اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے یعنی گمراہ ہو گئے۔

(۲) ایک سنت

کل سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) سجدہ میں ناک رکھنا۔ (۲) پھر پیشانی رکھنا۔ اور آج کا سبق سجدہ کی سنت نمبر ۳) دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے بسا اوقات طاعت و عبادت کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیک عمل کرنے والے مومنین کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفا ہے۔

سبق نمبر ۳۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

قُلْ آپ کہہ دیجیے

(۲) ایک سنت

کل سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) زمین پر پیشانی رکھنا۔ (۲) دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ اور آج کا سبق سجدہ کی سنت نمبر ۳) مردوں کو سجدہ میں پیٹ کورانوں سے الگ رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

بے شرمی و بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں جیسے آج کل کینسر، ایڈز وغیرہ۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔

سبق نمبر ۳۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

هُوَ اللّٰهُ وہ یعنی اللہ۔

(۲) ایک سنت

کلی سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ (۲) مردوں کو سجدہ میں پیٹھ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ اور آج کا سبق سجدہ کی سنت نمبر (۳) مردوں کو پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

زکوٰۃ نہ دینے سے بارش میں کمی ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

صراطِ مستقیم کی صورتِ مثالی آخرت میں مثلِ پلِ صراط کے ہے، پس جس شخص نے دنیا میں صراطِ مستقیم پر استقامت کی یعنی شریعت و سنت کا پابند رہا وہ اس پلِ صراط پر صحیح سالم گزر جائے گا۔ پس اگر چاہتے ہو کہ پلِ صراط پر پلک جھپکتے گزر جاؤ تو شریعت پر خوب مستقیم رہو۔

سبق نمبر ۳۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

أَحَدًا کے معنی ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا کے معنی ہوئے: آپ کہہ دیجیے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے۔

(۲) ایک سنت

کل سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) مردوں کو سجدہ میں پیٹھ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ (۲) مردوں کو سجدہ میں پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا۔ اور آج کا سبق نمبر (۳) مردوں کو کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بے خطا جان کو قتل کرنا یعنی ناحق خون کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض طاعات مثلاً صبر پر جنت کا وعدہ ہے۔ حدیثِ قدسی میں ارشاد ہے کہ جب اپنے مومن بندے کے کسی پیارے کی جان لے لوں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ (بخاری)

سبق نمبر ۳۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اللَّهُ الصَّامِدُ کے معنی ہیں: اللہ بے نیاز ہے۔

(۲) ایک سنت

کل سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) مردوں کو سجدہ میں پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا۔ (۲) مردوں کو کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ اور آج کا سبق سجدہ کی سنت نمبر (۳) سجدہ میں کم از کم تین بار **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط و تنگی اور حُکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ہر عمل کی آخرت میں ایک صورت مثالی ہے جیسا کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے درخت **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** ہیں۔ لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے بہت سے درخت حصہ میں آئیں وہ **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** خوب پڑھا کرے۔

سبق نمبر ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

لَمْ یَلِدْ کے معنی ہیں: اس کے اولاد نہیں۔

(۲) ایک سنت

کل سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) مردوں کو سجدہ میں کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ (۲) سجدہ میں کم از کم تین بار **سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی** پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے رشوت لینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

خیانت کرنے سے دل میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

آخرت میں سورہ **قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ** کی صورتِ مثالی محل کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ **قُلْ هُوَ اللّٰهُ** دس بار پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے اور جو بیس مرتبہ پڑھے اس کے لیے دو محل تیار ہوتے ہیں **الیٰ اٰخرا الحدیث**۔ (دارمی) پس جو شخص چاہے کہ جنت میں بہت سے محل ملیں وہ کثرت سے سورہ **قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ** پڑھا کرے۔

سبق نمبر ۳۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَلَمْ یُوَدِّدْ کے معنی ہیں: اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔

(۲) ایک سنت

کلی سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوں:

(۱) سجدہ میں کم از کم تین بار **سُبْحَانَ رَبِّیْ اَلْاَعْلٰی** پڑھنا۔ (۲) سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) سجدہ سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے رشوت دینا۔ (البتہ جہاں بغیر رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہ ہو گا لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے)

(۴) گناہ کے نقصانات

دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

آخرت میں عمل جاری (صدقہ جاریہ) کی صورت میں مثالی چشمہ کی سی ہے۔ پس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے وہ خوب صدقہ جاریہ کیا کرے۔

سبق نمبر ۳۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَلَمْ یَكُنْ لَّہٗ کَا تَرْجَمَہٗ ہِے: اور نہ ہے اس کے۔

(۲) ایک سنت

کل سجدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ (۲) سجدہ سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) قعدہ میں مردوں کو دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب پینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو نیچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ (حیات المسلمین)

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

آخرت میں دین کی صورتِ مثالی لباس کی ہے۔ پس جو شخص چاہے کہ اسے جنت میں خوب عمدہ لباس ملے وہ دین و تقویٰ کو مضبوط پکڑے۔

سبق نمبر ۴۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

کُفُوًا اَحَدًا کے معنی ہیں: برابر کا کوئی۔
وَلَمْ یَكُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدًا کے معنی ہوئے: اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) سجدہ سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ (۲) تعدہ میں مردوں کو دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب پلانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ حاکموں کے دلوں میں رعایا کے لیے غضب و غصہ پیدا فرمادیتے ہیں پھر وہ ان کو سخت عذاب و سزا کی تکلیف دیتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی صورتِ مثالی قیامت کے دن مثل بادل سیاہ سا بنان یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے ہوگی۔ پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن سایہ میں ہو تو ان سورتوں کی تلاوت کیا کرے۔

سبق نمبر ۴۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

سُبْحَانَ یعنی پاکی بیان کرتا ہوں۔

(۲) ایک سنت

کل تعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) مردوں کو دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ (۲) دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ اور آج کا سبق تعدہ کی سنت نمبر (۳) تشہد میں **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور **إِلَّا اللَّهُ** پر جھکا دینا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب
نچوڑنا یعنی کشید کرنا، بنانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے تعریف کرنے والا خود اس کی بُرائی کرنے لگتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
کی نحوست سے اس کی محبت و عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

علم کی صورتِ مثالی آخرت میں مثل دودھ کے ہے۔ پس جو شخص چاہے کہ جنت میں دودھ کا
چشمہ ملے یا حوضِ کوثر سے سیراب ہو وہ خوب علم دین حاصل کرے۔

سبق نمبر ۴۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

رَبِّ الْعَظِیْمِ اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِیْمِ کا ترجمہ ہوا: پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے۔

(۲) ایک سنت

کل قعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ (۲) تشهد میں **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پر جھکا دینا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) قعدہ آخر میں درود شریف پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب
نچڑوانا یعنی کشید کروانا، بنوانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی
ناجائز قبضہ کر لے اس کو قیامت کے دن ساتوں زمین میں دھنسیا جائے گا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نماز کی صورت مثالی مثل نور کے ہے۔ پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن پل صراط پر اس
کے پاس نور رہے تو نماز کا خوب اہتمام کرے۔

سبق نمبر ۴۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

سَمِعَ اللّٰهُ سَنِي اللّٰهِ نَبَات۔

(۲) ایک سنت

کل تعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) تشہد میں **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور **إِلَّا اللَّهُ** پر جھکا دینا۔ (۲) تعدہ آخر میں درود شریف پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) درود شریف کے بعد کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب کا پینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اگر گناہ پر کوئی اور سزا نہ بھی ہوتی تو صرف یہ سوچ کر گناہ سے بچنا ضروری تھا کہ کوئی شخص اپنے محسن کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا تو اس محسن حقیقی اور ایسے کریم مالک کو جس کے ہم پر بے شمار و لامتناہی احسانات ہیں ناراض کرنا شرافتِ بندگی کے خلاف ہے پھر اس کے علاوہ گناہوں پر دنیا و آخرت میں سخت عذابوں کی وعید بھی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

عبادت و طاعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ حدیثِ قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ (حیات المسلمین)

سبق نمبر ۴۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

لَمَنْ اس کی۔

(۲) ایک سنت

کلی قعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) قعدہ آخر میں درود شریف پڑھنا۔ (۲) درود شریف کے بعد کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) دونوں طرف سلام پھیرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے
ایک بڑا گناہ ہے شراب کا خریدنا

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

عبادت اور نیک اعمال سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت عطا ہوتی ہے، یعنی کبھی
رزق میں ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ تھوڑے رزق میں نفع کثیر
ہوتا ہے۔ اور چین سے گزر اوقات ہوتی ہے۔

سبق نمبر ۴۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

حَمِدَہٗ جس نے تعریف کی۔

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہٗ کا ترجمہ ہوا: سنی اللہ نے بات اس کی جس نے تعریف کی۔

(۲) ایک سنت

کل قعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) درود شریف کے بعد کوئی دعا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو پڑھنا۔ (۲) دونوں طرف سلام پھیرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) سلام کی داہنے طرف سے ابتدا کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب کے دام کھانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے کہ اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آئے لیکن اس کا نفع قلیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً بیماری، پریشانی، مقدمہ و اسراف وغیرہ پر خرچ ہو گیا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طرح طرح کی برکتیں آسمان و زمین سے نازل ہوتی ہیں۔

سبق نمبر ۴۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

رَبَّنَا کا ترجمہ ہوا: اے ہمارے پروردگار۔

(۲) ایک سنت

کل قعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) دونوں طرف سلام پھیرنا۔ (۲) سلام کی داہنے طرف سے ابتدا کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کو سلام کی نیت کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب کو لاد کر لانا یعنی کسی کے لیے شراب لانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے اور ہر قسم کی تنگی و دشواری سے نجات ملتی ہے۔

سبق نمبر ۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

لَاکَ الْحَمْدُ تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں۔
رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ کا ترجمہ ہوا: اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں۔

(۲) ایک سنت

کل فقہہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) سلام کی داہنے طرف سے ابتدا کرنا۔ (۲) امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کو سلام کی نیت کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) مقتدیوں کو امام اور فرشتوں، نیک جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کو سلام کی نیت کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب منگانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمیوں سے خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس طرح ان سے دور ہو کر ان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔

سبق نمبر ۴۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے۔

(۲) ایک سنت

کل قعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں یعنی:

(۱) سلام پھیرتے وقت امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کو سلام کی نیت کرنا۔ (۲) مقتدیوں کو امام اور فرشتوں، نیک جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کو سلام کی نیت کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) منفر د کو صرف فرشتوں کو سلام کی نیت کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جہاد شرعی سے بھاگ جانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت کا ایک دنیوی فائدہ یہ ہے کہ زندگی مزے دار ہو جاتی ہے، اور ایسی پُر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔

سبق نمبر ۴۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلتَّحِيَّاتُ کا ترجمہ ہوا: سب زبانی عبادتیں۔

(۲) ایک سنت

کل قعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

- ۱) سلام پھیرتے وقت مقتدیوں کو امام اور فرشتوں، نیک جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کو سلام کی نیت کرنا۔ (۲) منفرد کو صرف فرشتوں کو سلام کی نیت کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے رشوت کے معاملے میں پڑنا مثلاً رشوت دینے لینے کا معاملہ طے کر دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ دل میں تاریکی و ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت کا ایک دنیوی فائدہ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے پھولتے ہیں اور نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔

سبق نمبر ۵۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

بِاللہ کے معنی ہیں اللہ کے لیے۔

(۲) ایک سنت

کل قعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) سلام پھیرتے وقت منفرد کو صرف فرشتوں کو سلام کی نیت کرنا۔ (۲) مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) امام کو دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پشت کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جو اکیلنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹنے گھٹنے بالکل ختم ہو جاتی ہے، دل کی کمزوری سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بظاہر قوی و تندرست کفار بھی صحابہ کے سامنے نہ ٹھہر سکتے تھے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شرور و آفات کو دور کر دیتا ہے۔

سبق نمبر ۵۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَالصَّلَوَاتُ تمام بدنی عبادتیں۔

(۲) ایک سنت

کل قعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔ (۲) امام کو دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) مسہوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے ظلم کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی توفیق طاعت سے محروم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کی نحوست سے رفتہ رفتہ تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے۔

سبق نمبر ۵۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَالطَّيِّبَاتُ تمام مالی عبادتیں۔

الَّتَحْيَاتُ لِلّٰہِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ کا ترجمہ ہوا: سب زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔

(۲) ایک سنت

کل تعدہ کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) امام کو دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔ (۲) مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) رکوع میں مرد کے ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور سجدہ میں انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کا مال یا چیز بغیر اس کی مرضی و اجازت کے لینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے زندگی گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔

سبق نمبر ۵۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ سَلَامٌ هُوَ اَبُو اَبٍ پَر۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سننیں بیان ہوئیں: (۱) مسہوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ (۲) رکوع میں مرد کے ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور سجدہ میں انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی۔ اور آج کا سبق سنت (نمبر ۳) عورتوں کی نماز کے طریقے کا فرق: عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، مردوں کی طرح کانوں تک نہ اٹھائے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے سود لینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کا عادی ہو جانے سے چھوڑنا دشوار ہوتا ہے حتیٰ کہ گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی مگر عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

عبادت و طاعت سے دل کو ایسا سکون و اطمینان عطا ہوتا ہے جس کی لذت کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بیچ ہے۔

سبق نمبر ۵۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَیُّہَا النَّبِیُّ اے نبی۔

اَلْسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّہَا النَّبِیُّ کا ترجمہ ہے: سلام ہو آپ پر اے نبی۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنئیں بیان ہوئیں: (۱) رکوع میں مرد کے ہاتھ کی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور سجدہ میں انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی۔ (۲) عورتوں کی نماز کے طریقے کا فرق: عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، مردوں کی طرح کانوں تک نہ اٹھائے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے سود دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی نافرمانی کی حالت میں موت آجاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت و نیکی سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے اور اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔

سبق نمبر ۵۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَرَحْمَةً اللّٰہِ اور اللہ کی رحمت۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، مردوں کی طرح کانوں تک نہ اٹھائے۔ (۲) ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) عورت سینہ پر ہاتھ باندھے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے سود لکھنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ کچھ دن میں اس گناہ کی بُرائی دل سے نکل جاتی ہے اور یہ شخص کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و معافی سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ کی بُرائی دل سے کم ہوتے ہوتے بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ نعوذ باللہ

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

عبادت و طاعت سے زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا کہ جیسے جنت میں چلا گیا ہے جس سے دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور بڑھ گئی اور اس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔

سبق نمبر ۵۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَبَرَکَاتُہٗ اور اس کی برکتیں۔

اَلْسَّلَامُ عَلَیْکَ سے وَبَرَکَاتُہٗ تک یہ ترجمہ ہوا: سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔
(۲) عورت سینہ پر ہاتھ باندھے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) عورت اپنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، مردوں کی طرح چھٹکلیا اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے سوڈ پر گواہ بننا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہر گناہ دشمنانِ خدا میں سے کسی کی میراث ہے تو گویا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے، اور حدیثِ پاک میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ ان ہی میں شمار ہو گا لہذا جلد توبہ کرنی چاہیے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیک اعمال کرنے سے فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔

سبق نمبر ۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا سَلَامٌ ہُو ہَم پَر۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہو: (۱) عورت سینہ پر ہاتھ باندھے۔ (۲) عورت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، مردوں کی طرح چھنگلیا اور انگوٹھے سے گئے کونہ پکڑے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) رکوع میں کم جھکے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر و ذلیل ہو جاتا ہے اور مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی خواہ لوگ اس کے شر کے خوف سے یا کسی لالچ سے اس کی تعظیم کریں لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض عبادت میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملے میں تردد و فکر ہو وہ جاتا رہتا ہے اور اسی طرف رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر اور نفع ہو۔ نقصان کا احتمال ہی نہیں رہتا جیسے نمازِ استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔

سبق نمبر ۵۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ اور اللہ کے بندوں پر۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: عورت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، مردوں کی طرح چھنگلیا اور انگوٹھے سے گٹے کونہ پکڑے۔ (۲) رکوع میں کم جھکے۔ اور آج کا سبق نمبر ۳) رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے مردوں کی طرح انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کونہ پکڑے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے امانت میں خیانت کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست نہ صرف گناہ گار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے جس کی وجہ سے جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض عبادت میں یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ جیسے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنادیا کروں گا۔ (ترمذی شریف)

سبق نمبر ۵۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

الصَّالِحِیْنَ نیک بندے۔

السَّلَامُ عَلَیْنَا سے الصَّالِحِیْنَ تک یہ ترجمہ ہوا: سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) عورت رکوع میں کم جھکے۔ (۲) رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے، ہر دوں کی طرح انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے
وعدہ خلافی کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ عقل میں فتور اور کمی آجاتی ہے، بلکہ گناہ بد عقل ہی کرتا ہے، اگر عقل صحیح ہوتی تو ایسے قدرت والے دونوں جہاں کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بیچنے والے اور خریدنے والے کے سچ بولنے پر اور اپنے مال کا عیب بتا دینے پر برکت کا وعدہ ہے۔ (جزء الاعمال)

سبق نمبر ۶۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

أَشْہَدُ میں گواہی دیتا ہوں۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) عورت رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے مردوں کی طرح انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑے۔ (۲) دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ گار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے کیوں کہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے مثلاً قوم لوط کا عمل کرنے والے پر، تصویر بنانے والے پر، چور پر اور صحابہ کو برا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہ پر کوئی اور سزا نہ بھی ہوتی تو کیا یہ تھوڑا نقصان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں یہ شخص آگیا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی اور طاعت کا ایک دنیوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے۔

سبق نمبر ۶۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہ کوئی معبود نہیں۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) عورت دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے۔ (۲) دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) سجدہ میں عورت پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے ان مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، بس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض مالی عبادت سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے اور بُری حالت پر موت نہیں آتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصہ کو بجھاتا ہے اور بُری موت سے بچاتا ہے۔

سبق نمبر ۶۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلَا اللّٰہُ کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔

اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کا ترجمہ ہوا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے۔
(۲) سجدہ میں عورت پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے۔ اور آج کا سبق سنت
نمبر (۳) خود سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور بانہیں یعنی بازو دونوں
پہلوؤں سے ملا دے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی
مسلمان کو بے ایمان، کافر، خدا کا دشمن کہنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ طرح طرح کی خرابیاں گناہوں کی نحوست سے زمین
میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت کا ایک اثر یہ ہے کہ دعا سے بلا ٹلتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔

سبق نمبر ۲۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا ۱ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) سجدہ میں عورت پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے۔ (۲) خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور بانہیں یعنی بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) کہنیوں کو زمین پر رکھ دے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بھاؤ طے کر کے بعد میں زبردستی سے کم دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے شرم و حیا جاتی رہتی ہے اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض نیکیوں سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ جیسے سورہ یٰسین پڑھنے سے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شروع دن میں یٰسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ (دارمی)

سبق نمبر ۶۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

عَبْدُہٗ اس کے بندے۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) عورت خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور بائیں یعنی بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دے۔ (۲) کہنیوں کو زمین پر رکھ دے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) قعدہ میں بائیں طرف بیٹھے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے نامحرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی لہذا یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض نیکی و طاعت سے فاقہ نہیں ہوتا۔ جیسے سورہ واقعہ پڑھنے سے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہ ہو گا۔

سبق نمبر ۶۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَرَسُوْلُہٗ اور اس کے رسول ہیں۔

وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ کا ترجمہ ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) سجدہ میں عورت کہنیوں کو زمین پر رکھ
دے۔ (۲) قعدہ میں بائیں طرف بیٹھے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) دونوں پاؤں داہنی طرف
نکال دے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے ناچ دیکھنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں
کا ہجوم ہوتا ہے بعض گناہ گار اگر بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے
اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرے میں ہے کیوں کہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو دنیا یا آخرت میں
اکٹھی سزا دی جائے گی۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک
شخص حالت کفر میں بہت کھایا کرتا تھا ایمان لانے کے بعد بہت کم کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنت میں۔

سبق نمبر ۶۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَللّٰهُمَّ صَلِّ اے اللہ رحمت نازل فرما۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) عورت قعدہ میں بائیں طرف بیٹھے۔
(۲) دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) قعدہ میں دونوں ہاتھوں
کی انگلیاں خوب ملی رکھے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے راگ
باجا (جس کو آج کل موسیقی کہتے ہیں) سنانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے عزت و شرافت کے القاب چھین کر ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں مثلاً نیکی
کرنے سے جو شخص نیک، فرماں بردار، تہجد گزار کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب
وہی شخص فاسق و فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہلایا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا۔ جیسے کسی
مریض یا مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے سے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا اَبْتَلَاکَ بِہٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّیْلًا

نوٹ: یہ دعا آہستہ سے پڑھے تاکہ مبتلائے مصیبت کو اذیت نہ ہو۔

سبق نمبر ۶۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

عَلٰی مُحَمَّدًا مُحَمَّدٌ صَلٰی اللہ علیہ وسلم پر۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کا ترجمہ ہوا: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) عورت قعدہ میں دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے۔ (۲) اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملی رکھے۔ اور نمبر (۳) آج کا سبق سو کر اٹھنے کی سنتیں شروع ہوتی ہیں، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھیں ملانا تاکہ نیند کا خماری دور ہو جائے۔ (شمائل ترمذی)

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کافروں کی رسمیں پسند کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور آسانی اس کے اعضا کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض دعاؤں کی برکت سے فکریں زائل اور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں یہ دعا تعلیم فرمائی گئی ہے:

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النّٰہْمِ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَاَنْکَسَلِ وَاَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَلْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

سبق نمبر ۲۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍؐ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔

(۲) ایک سنت

کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا: (۱) عورت قعدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملی رکھے۔ (۲) اور سو کر اٹھنے کی یہ سنت بیان ہوئی نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھیں ملانا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) صبح آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلِیْهِ النُّشُوْرُ

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی سے مسخر اپن کر کے اسے بے عزت اور شرمندہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے اور ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض دعا مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ جیسے سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس صبح و شام تین تین بار پڑھنے سے مخلوق کے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔

سبق نمبر ۶۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

کَمَا صَلَّيْتُ جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی۔

(۲) ایک سنت

کل سوکراٹھنے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھیں ملنا تاکہ نیند کا شمار دور ہو جائے۔ (۲) صبح آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھے: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلَيْهِ النُّشُوْرُ**۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) سوکراٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔ وضو کے وقت دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ سنت ہے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بلا عذر نماز قضا کر دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا بلکہ جو کام زندگی بھر کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک پیسہ مانگنے والا کلمہ پڑھنے کے بجائے پیسہ مانگتا ہوا مر گیا۔ نعوذ باللہ

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض نیکی و عبادت سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے۔ جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں۔

سبق نمبر ۷۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

علیٰ ابراہیم علیہ السلام پر۔

(۲) ایک سنت

کل سوکراٹھنے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) نیند سے آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھے: **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ**
اَحْیَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَالِیْہِ الشُّکْرُ۔ (۲) سوکراٹھنے کے بعد مسواک کرنا۔ وضو کے
وقت دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ سنت ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) برتن میں ہاتھ
ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح تین مرتبہ دھونا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے لڑکوں
سے بد فعلی کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے
توبہ مرتا ہے۔ کسی شخص کو کلمہ کی تلقین کی گئی تو کہا اس کلمہ سے کیا ہوگا، میں نے تو کبھی نماز ہی
نہیں پڑھی اور مر گیا۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا
حامی و مددگار ہوتا ہے۔

سبق نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ اَنْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمِؑ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ کَمَا صَلَّیْتَ سے اٰلِ اِبْرٰهٖمِؑ تک
کا ترجمہ یہ ہوا: جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔

(۲) ایک سنت

کل سوکراٹھنے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) سوکراٹھنے کے بعد مسواک کرنا (۲) برتن میں ہاتھ
ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح تین مرتبہ دھونا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر
(۳) بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں:

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَاِیْثِ

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے خدا کی
رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رَحْمٰنٌ وَرَحِیْمٌ ہے، کیسا ہی بڑا گناہ ہو تو یہ کرنے
سے اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں۔ لہذا جلد توبہ کرنی چاہیے۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے
جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی
رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

سبق نمبر ۷۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اِنَّكَ کے معنی بے شک آپ۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) نیند سے اٹھ کر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح تین مرتبہ دھونا۔ (۲) بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: **بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَاثِ** اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بائیں قدم رکھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے حقارت سے کسی پر ہنسنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بے زاری ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں۔

سبق نمبر ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

حَمِیْدٌ تعریف کے لائق۔

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوتی ہیں: (۱) بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں:

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَاِیْثِ

(۲) بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بائیں قدم رکھنا۔ اور آج کا سبق نمبر ۳) سر ڈھانک کر اور جو تا پہن کر بیت الخلاء جانا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کو طعنہ مارنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان و فرماں برداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرماتے ہیں۔

سبق نمبر ۷۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

عَبْدٌ بَرٌّ لِّرَبِّہٖ

اِنَّكَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ کے معنی بے شک آپ تعریف کے لائق بڑی بزرگی والے ہیں۔

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے رکھنا۔ (۲) سر ڈھانک کر اور جو تا پین کر بیت الخلاء جانا۔ اور آج کا سبق نمبر (۳) پیشاب پاخانہ کے لیے باسانی جتنا نیچا ہو کر بدن کھولیں اتنا ہی بہتر ہے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا جیسے اواندھے، اولنگڑے، اوموٹے وغیرہ۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان و نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور زمین پر اس کو مقبولیت عطا کی جاتی ہے۔

سبق نمبر ۷۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ اے اللہ برکت نازل فرما۔

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء جانا۔ (۲) پیشاب پاخانہ کے لیے باسانی جتنا نچا ہو کر بدن کھولیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور آج کا سبق نمبر (۳) پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس طرف کو پیٹھ کریں۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بدگمانی کرنا یعنی بغیر دلیل شرعی کسی کو برا سمجھنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے بسا اوقات نیکیوں کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

کامل ایمان والوں یعنی نیک مومن بندوں کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفا ہے۔

سبق نمبر ۷۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

عَلٰی مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٌ صَلٰی اللہ علیہ وسلم پر۔

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) پیشاب پاخانہ کے لیے باسانی جتنا نیچا ہو کر بدن کھولیں اتنا ہی بہتر ہے۔ (۲) پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس طرف کو پیٹھ کریں۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) پیشاب پاخانہ کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کا عیب تلاش کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ جیسے کینسر، ایڈز وغیرہ۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔

سبق نمبر ۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍؐ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس طرف کو پیٹھ کریں۔ (۲) پیشاب پاخانہ کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) پیشاب یا استنجاء کرتے وقت عضو خاص کو داہنا ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا یعنی پیٹھ پیچھے کسی کا ایسا عیب اور بُرائی بیان کرنا جو واقعتاً اس میں ہو۔

(۴) گناہ کے نقصانات

زکوٰۃ نہ دینے سے بارش بند ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

آخرت میں صراطِ مستقیم کی صورتِ مثالی مثل پل صراط کے ہے۔ پس جس شخص نے دنیا میں صراطِ مستقیم پر استقامت کی یعنی شریعت پر خوب قائم رہا وہ پل صراط سے صحیح سالم پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ پس اگر چاہتے ہو کہ پل صراط سے پلک جھپکتے گزر جاؤ تو شریعت کے خوب پابند رہو۔

سبق نمبر ۷۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

گنہگار گنہگار جیسی کے برکت نازل فرمائی آپ نے۔

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) پیشاب پاخانہ کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔ (۲) پیشاب یا استنجاء کرتے وقت عضو خاص کو داہنا ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) پیشاب پاخانہ کی چھینٹوں سے بہت بچیں کیوں کہ اکثر عذابِ قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بلا وجہ کسی کو بُرا بھلا کہنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض نیکیوں پر مثلاً صبر پر جنت کا وعدہ ہے۔ حدیثِ قدسی میں ارشاد ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کے پیارے کی جان لے لیتا ہوں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ (بخاری)

سبق نمبر ۷۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ ابراہیم علیہ السلام پر۔

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) پیشاب یا استنجاء کرتے وقت عضو خاص کو داہنا ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں۔ (۲) پیشاب پاخانہ کی چھینٹوں سے بہت بچیں کیوں کہ اکثر عذابِ قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر نہ کریں۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے چغلی کرنا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط و تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

جنت کے درخت سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہیں یعنی ان کی صورتِ مثالی درخت کی سی ہے لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے خوب درخت حصے میں آئیں وہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خوب پڑھا کرے۔

سبق نمبر ۸۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهَیْمَؑ وَاٰلِ اِیْمٰنٍ سَلَامٌ عَلَیْهِمُ جَمِیْعًا

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) پیشاب پاخانہ کی چھینٹوں سے بہت بچیں کیوں کہ اکثر عذابِ قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ (۲) بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر نہ کریں۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت پہلے داہنا پیر نکالیں اور باہر آکر یہ دعا پڑھیں: **غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَعَافَانِیْ** ^۱

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

خیانت کرنے سے دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

آخرت میں سورہ اخلاص کی صورتِ مثالی محل کی طرح ہے۔ حدیثِ پاک میں ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے اور جو بیس مرتبہ پڑھے اس کے لیے دو محل تیار ہوتے ہیں۔ **اِلٰی اٰخِرِ الْحَدِیْثِ** (دارمی)

پس جو شخص چاہے کہ جنت میں بہت سے محل ملیں وہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرے۔

سبق نمبر ۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اِنَّكَ کے معنی بے شک آپ۔

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر نہ کریں۔
(۲) بیت الخلاء سے نکلنے وقت پہلے داہنا پیر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: **خُفِّرَا نَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَ عَافَانِی**۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے دھوکا دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

آخرت میں عمل جاری (صدقہ جاریہ) کی صورت مثالی چشمہ کی سی ہے۔ پس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے وہ خوب صدقہ جاریہ و خیرات کیا کرے۔

سبق نمبر ۸۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

حَمِیْدٌ کے معنی تعریف کے لائق۔

(۲) ایک سنت

کل بیت الخلاء کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت پہلے داہنا پیر نکالیں اور باہر آکر یہ دعا پڑھیں: **غُفْرَانَكَ اَسْتَغْفِرُكَ بِاللّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذٰی وَعَافَانِيْ**۔ (۲) بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا اس وقت ایسی آڑکی جگہ میں پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے عار دلانا یعنی کسی کو اس کے کسی گناہ یا خطا پر شرمندہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

دین کی صورت مثالی آخرت میں لباس کی سی ہے۔ پس جو شخص چاہے کہ اسے جنت میں خوب عمدہ لباس ملے وہ دین و تقویٰ کو مضبوط پکڑے۔

سبق نمبر ۸۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مَحْمَدٌ کے معنی بزرگی والا۔

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ کا ترجمہ ہونا بے شک آپ تعریف کے لائق بزرگی والے ہیں۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ (۲) پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹ نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) پیشاب کرنے کے بعد استنجاء سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ حاکموں کے دلوں میں رعایا کے لیے غضب و غصہ پیدا فرمادیتے ہیں پھر وہ ان کو سخت عذاب و سزا کی تکلیف دیتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی صورت مثالی قیامت کے دن مثل بادل سائبان یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے ہوگی۔ پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن سایہ میں ہو وہ ان سورتوں کی تلاوت کیا کرے۔

سبق نمبر ۸۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ کے معنی ہیں: اے اللہ میں نے۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) میدان میں پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے۔ (۲) پیشاب کرنے کے بعد استنجاء سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو باہر سے اتار کر بیت الخلاء جائیں لیکن موم جامہ کیا ہوا یا کپڑے میں سلا ہوا تعویذ پہن کر جانا جائز ہے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے تعریف کرنے والا خود اس کی بُرائی کرنے لگتا ہے کیوں کہ گناہ گار کی عظمت و محبت دل سے نکل جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

علم کی صورتِ مثالی آخرت میں مثل دودھ کے ہے۔ پس جو شخص چاہے کہ جنت میں دودھ کا چشمہ ملے وہ علمِ دین حاصل کرے۔

سبق نمبر ۸۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

ظَلَمْتُ کے معنی ہیں: میں نے ظلم کیا۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) پیشاب کرنے کے بعد استنجاء سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ (۲) انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو باہر اسے اتار کر بیت الخلاء جائیں لیکن موم جامہ کیا ہو یا کپڑے میں سلاہوا تعویذ پہن کر جانا جائز ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) وضو کی سنتیں شروع ہوتی ہیں۔ وضو کی نیت کرنا، مثلاً یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانہ۔

(۴) گناہ کے نقصانات

بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ کر لے قیامت کے دن اس کو ساتوں زمین میں دھنسا یا جائے گا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

آخرت میں نماز کی صورت مثالی مثل نور کے ہے۔ پس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس پل صراط پر نور رہے تو نماز کا خوب اہتمام کرے۔

سبق نمبر ۸۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

نَفْسِی کے معنی: اپنے نفس پر۔

(۲) ایک سنت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر وضو کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ پڑھ کر وضو کرنے سے جب تک وضو ہے گا فرشتہ مسلسل ثواب لکھتا رہے گا چاہے بندہ مباح کاموں میں مشغول ہو۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ گناہ پر اگر کوئی سزا نہ بھی ہوتی تو ایسے کریم اور محسن پروردگار کی صرف ناراضگی کے خیال سے گناہ سے بچنا ضروری تھا۔ دنیا میں بھی کوئی شریف بندہ اپنے محسن کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا پھر اس محسن حقیقی کو ناراض کرنے کی کیسے جرأت ہوتی ہے جبکہ گناہوں پر دنیا و آخرت کے عذابوں کی بھی وعید ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ (حیات المسلمین)

سبق نمبر ۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

ظُلْمًا کَثِیْرًا کے معنی ہیں: بہت ظلم۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا کا ترجمہ ہو: اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) وضو کی نیت کرنا، مثلاً یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ (۲) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر وضو کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ پڑھ کر وضو کرنے سے جب تک وضو رہے گا فرشتہ مسلسل ثواب لکھتا رہے گا چاہے بندہ مباح کاموں میں مشغول ہو۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین بار دھونا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کے مال کا نقصان کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی اور طاعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت عطا ہوتی ہے یعنی رزق میں کبھی ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ تھوڑے رزق میں نفع کثیر ہوتا ہے اور چین سے گزراوقات ہوتی ہے۔

سبق نمبر ۸۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدًا وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَلَا یَغْفِرُ کے معنی ہیں: اور نہیں بخش سکتا کوئی۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر وضو کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ پڑھ کر وضو کرنے سے جب تک وضو ہے گافرشتہ مسلسل ثواب لکھتا رہے گا چاہے بندہ مباح کاموں میں مشغول ہو۔ (۲) دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین بار دھونا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملانا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ رزق کم ہو جاتا ہے۔ یعنی رزق کی برکت جاتی رہتی ہے اگرچہ بظاہر زیادہ نظر آئے لیکن اس کا نفع قلیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً بیماری، پریشانی، فضول خرچی و اسراف وغیرہ پر خرچ ہو گیا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت اور نیکی سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طرح طرح کی برکتیں آسمان و زمین سے نازل ہوتی ہیں۔

سبق نمبر ۸۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلذُّنُوْبَ کے معنی ہیں: گناہوں کو۔

(۲) ایک سنت

کلی وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین بار دھونا۔ (۲) مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) تین بار کلی کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سے ایک وحشت سی رہتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے اور ہر قسم کی تنگی و دشواری سے نجات ملتی ہے۔

سبق نمبر ۹۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اِلا کے معنی ہیں: سوا۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملانا۔ (۲) تین بار کلی کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) تین بار ناک میں پانی چڑھانا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بڑوں کی عزت نہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمیوں سے خصوصاً نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے اور اس طرح ان سے دور ہو کر ان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت کا ایک دنیوی فائدہ یہ ہے کہ ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔

سبق نمبر ۹۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَنْتَ یعنی تیرے سوا۔

وَلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ کے معنی ہیں: اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) تین بار کلی کرنا۔ (۲) تین بار ناک میں پانی چڑھانا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) تین بار ناک چھلکانا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے حیثیت کے موافق بھوکوں اور محتاجوں کی مدد نہ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زندگی مزے دار ہو جاتی ہے، اور ایسی پُر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی کہ اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔

سبق نمبر ۹۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

فَاغْفِرْ لِيْ کے معنی ہیں: پس مجھے بخش دے۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) تین بار ناک میں پانی چڑھانا۔ (۲) تین بار ہی ناک چھنکانا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) ہر عضو کو تین تین بار دھونا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی دنیوی رنج سے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ دل میں تاریکی و ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی نحوست سے آدمی بدعت و گمراہی و جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت کا ایک فائدہ دنیا میں یہ ملتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے پھولتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔

سبق نمبر ۹۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مَغْفِرَةً کے معنی ہیں: (خاص) بخشش۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) تین بار ناک چھکننا۔ (۲) ہر عضو کو تین تین بار دھونا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی جاندار کی تصویر بنانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دل کی کمزوری کا اثر جسم پر پڑتا ہے جس سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر قوی اور تندرست کفار بھی صحابہ کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتے تھے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شر اور آفتوں کو دور کر دیتا ہے۔

سبق نمبر ۹۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مِنْ عِنْدِكَ کے معنی ہیں: اپنے پاس سے۔

فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ کے معنی ہوئے: پس اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) ہر عضو کو تین تین بار دھونا۔ (۲) چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خیال کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خیال کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر موروٹی کا دعویٰ کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کی نحوست سے رفتہ رفتہ تمام نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ پس گناہوں سے جلد توبہ کرنی چاہیے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مالی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نعم البدل مل جاتا ہے یعنی اس نقصان کے بدلہ میں کوئی اس سے بھی اچھی چیز مل جاتی ہے۔

سبق نمبر ۹۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَأَرْحَمْنِيْ کے معنی ہیں: اور مجھ پر رحم فرما۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ (۲) ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے ہٹا کٹا تندرست ہونے کے باوجود بھیک مانگنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عمر گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔

سبق نمبر ۹۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اِنَّكَ اَنْتَ کے معنی ہیں: بے شک تو۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ (۲) ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے داڑھی منڈوانا یا ایک مشمت سے کم پر کتر وانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی لیکن عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

عبادت و طاعت سے دل کو ایسا سکون و اطمینان عطا ہوتا ہے جس کی لذت کے سامنے سارے جہاں کی سلطنت کا عیش ہیچ ہے۔

سبق نمبر ۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

الْغَفُوْرُ کے معنی ہیں: بخشنے والا۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ (۲) سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) اعضائے وضو کو مل کر دھونا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اسی نافرمانی کی حالت میں موت آجاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے اور اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے۔

سبق نمبر ۹۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلرَّحِیْمِ کے معنی ہیں: مہربان۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُوْرُ الرَّحِیْمِ کے معنی ہوئے: بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ (۲) اعضائے وضو کو مل کر دھونا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) پے درپے وضو کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ کچھ دن میں اس گناہ کی بُرائی دل سے نکل جاتی ہے اور یہ شخص کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و معافی سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ کی بُرائی دل سے کم ہوتے ہوتے بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ (العیاذ باللہ)

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

عبادت و طاعت سے زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا کہ جیسے جنت میں چلا گیا ہے جس سے دل خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور بڑھ گئی اور اس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔

سبق نمبر ۹۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ کے معنی ہیں: سلام ہو تم پر۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) اعضائے وضو کو مل کر دھونا۔ (۲) پے درپے وضو کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) ترتیب وار وضو کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہر گناہ دشمنانِ خدا میں سے کسی کی میراث ہے تو گویا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے اور حدیثِ پاک میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ ان ہی میں شمار ہوگا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیک اعمال کرنے سے فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔

سبق نمبر ۱۰۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَرَحْمَةً اللّٰهِ کے معنی ہیں: اور رحمت اللہ کی۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) پے درپے وضو کرنا۔ (۲) ترتیب وار وضو کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) داہنی طرف سے پہلے دھونا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے زنا یعنی بدکاری کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر و ذلیل ہو جاتا ہے، اور مخلوق میں بھی عزت نہیں رہتی۔ لوگ اس کے شریا کسی لالچ سے اس کی تعظیم تو کریں گے لیکن کسی کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ اگر کسی معاملے میں تردد ہو تو وہ جاتا رہتا ہے اور کسی طرف رائے قائم ہو جاتی ہے جس میں سراسر خیر اور نفع ہوتا ہے، نقصان کا احتمال ہی نہیں رہتا، جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔

سبق نمبر ۱۰۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہٖ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اب قرآن شریف کی چند سورتوں کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ لکھا جاتا ہے تاکہ ان سورتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے پڑھنے سے نماز میں دل لگے۔ سب سے پہلے سورہ کافرون کا ترجمہ شروع کیا جاتا ہے۔ **قُل** کے معنی ہیں: آپ کہہ دیجیے۔ یعنی اے نبی آپ کہہ دیجیے۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) ترتیب وار وضو کرنا۔ (۲) پہلے داہنی طرف سے دھونا۔ اور آج کا سبق وضو کی سنت نمبر (۳) وضو کے بعد کلمہ شہادت **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے چوری کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست نہ صرف گناہ گار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے جس کی وجہ سے جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنادیا کروں گا۔ (ترمذی)

سبق نمبر ۱۰۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اے کافرو!

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کا ترجمہ ہوا: آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو!

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) پہلے داہنی طرف سے دھونا۔ (۲) وضو کے بعد کلمہ شہادت

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھنا۔ اور آج کا سبق

سنت نمبر (۳) پھر یہ دعا پڑھنا: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ

الْمُتَطَهِّرِينَ۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے ڈکیتی ڈالنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ عقل میں فتور اور کمی آجاتی ہے، بلکہ گناہ کرنا خود کم

عقلی کی دلیل ہے، کیوں کہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں

جہاں کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا اور دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض طاعات میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بیچنے والے اور

خریدنے والے کے سچ بولنے پر اور اپنے مال کا عیب بتا دینے پر برکت کا وعدہ ہے۔ (جزاء الاعمال)

سبق نمبر ۱۰۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

لَا اَعْبُدُ نَه میں پرستش کرتا ہوں۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنئیں بیان ہوئیں: (۱) وضو کے بعد کلمہ شہادت **اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ**
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ پڑھنا۔ (۲) پھر یہ دعا پڑھنا: **اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِّنَ**
التَّوَابِيْنَ وَاَجْعَلْنِيْ مِّنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) جس وقت وضو کرنا
دل کونا گوار ہو اس وقت بھی خوب اچھی طرح وضو کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جھوٹی
گواہی دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل
ہو جاتا ہے کیوں کہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے، مثلاً قوم کا عمل کرنے
والے پر، تصویر بنانے والے پر، چور پر، صحابہ کو بُرا کہنے والے پر وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہ پر کوئی
اور سزا نہ بھی ہوتی تو کیا یہ تھوڑا نقصان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں یہ شخص آ گیا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعات سے دنیا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے۔

سبق نمبر ۱۰۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مَا تَعْبُدُوْنَ تمہارے معبودوں کی۔

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ کا ترجمہ ہوا: نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں۔

(۲) ایک سنت

کل وضو کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر یہ دعا پڑھنا: **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ** (۲) جس وقت وضو کرنا دل کو ناگوار ہو اس وقت بھی خوب اچھی طرح وضو کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) مسجد میں داخل ہوتے وقت **بِسْمِ اللّٰهِ** پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے یتیم کمال کھانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے ان مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ پس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی وہ اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض مالی عبادت سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے اور بُری حالت پر موت نہیں آتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ پروردگار کے غضب کو بجھاتا ہے اور بُری موت سے بچاتا ہے۔

سبق نمبر ۱۰۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَلَا اور نہ۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) جس وقت وضو کرنا دل کونا گوار ہو اس وقت بھی خوب اچھی طرح وضو کرنا۔ (۲) مسجد میں داخل ہوتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) درود شریف پڑھنا۔ مثلاً **الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔**

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف دینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ طرح طرح کی خرابیاں گناہوں کی نحوست سے زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و طاعت کا ایک اثر یہ ہے کہ دعا سے بلا ملتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔

سبق نمبر ۱۰۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

اَنْتُمْ کے معنی ہیں: تم۔

(۲) ایک سنت

کل مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) مسجد میں داخل ہوتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا۔

(۲) درود شریف پڑھنا۔ مثلاً الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اور آج کا سبق سنت

نمبر (۳) دعا پڑھنا: اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ یعنی تینوں کو اس طرح پڑھیں:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بے خطا جان کو قتل کرنا، یعنی ناحق خون کرنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے شرم و حیا جاتی رہتی ہے، اور جب شرم نہیں رہتی تو آدمی جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض عبادت و نیکی سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص

شروع دن میں سورہ یٰسین پڑھے اس کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی۔ (دارمی)

سبق نمبر ۱۰۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

عِبَادُوْنَ پر سنتش کرتے ہو۔

وَلَا اَنْتُمْ عِبَادُوْنَ كَا تَرْجَمُهٗ: اور نہ تم پر سنتش کرتے ہو۔

(۲) ایک سنت

کل مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) درود شریف پڑھنا۔ مثلاً **اَلصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ** (۲) دعا پڑھنا: **اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ**۔ یعنی تینوں کو اس طرح پڑھیں: **بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ**۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) پہلے داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہتی۔ پھر یہ شخص لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض عبادت و نیکی سے فاقہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔

سبق نمبر ۱۰۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مَاْ اَعْبُدُ میرے معبود کی۔

وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُوْنَ مَاْ اَعْبُدُ کا ترجمہ ہوا: اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو۔

(۲) ایک سنت

کل مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) دعا پڑھنا: **اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ**۔ یعنی تینوں کو اس طرح پڑھیں: **بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ**۔ (۲) پہلے داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) اعتکاف کی نیت کرنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے رشوت لینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے، بعض گناہ گار اگر بڑے عیش میں نظر آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے اور ایسا شخص اور بھی زیادہ خطرے میں ہے کیوں کہ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو اکٹھی سزا دی جائے گی۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان و طاعت کی برکت سے تھوڑے کھانے میں سیری ہو جاتی ہے۔

سبق نمبر ۱۰۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَلَا اَنَا اور نہ میں۔

(۲) ایک سنت

کل مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) پہلے داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا۔
(۲) اعتکاف کی نیت کرنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) مسجد سے نکلنے کی سنتیں شروع ہوتی ہیں۔

سب سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے رشوت دینا۔ (البتہ جہاں بغیر رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے وہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہ ہوگا، لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے۔)

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے عزت و شرافت کے القاب چھن کر ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں۔ مثلاً نیکی کرنے سے جو شخص نیک فرماں بردار، پرہیزگار کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق و فاجر، ظالم و خبیث وغیرہ کہلایا جاتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض دعاؤں کی برکت سے بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا۔ جیسے کسی مریض یا

بتلائے مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے سے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا اَبْتَلَاکَ بِهٖ

وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقٍ تَفْضِیْلًا۔ (ترمذی)

سبق نمبر ۱۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

عَابِدٌ کے معنی ہیں: پرستش کروں گا۔
وَلَا اَنَا عَابِدٌ كَا تَرْجَمَهُ هُوَا: اور نہ میں پرستش کروں گا۔

(۲) ایک سنت

کل مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کرنا۔ (۲) مسجد سے نکلنے وقت بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) درود شریف پڑھنا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب پینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے شیاطین گناہ گار پر مسلط ہو جاتے ہیں اور آسانی اس کے اعضا کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض دعاؤں کی برکت سے فکریں زائل اور قرض ادا ہو جاتا ہے، مثلاً اس دعا سے جو حدیث پاک میں تعلیم فرمائی گئی ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَاَنْكَسَلِ وَاَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَلْبُحْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

سبق نمبر ۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مَا عَبَدْتُمْ یعنی تمہارے معبودوں کی۔

وَلَا اَنَا عَابِدٌ لِّمَا كُفَرْتُمْ کاترجمہ ہوا: اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا۔

(۲) ایک سنت

کل مسجد سے نکلنے کی یہ سنتیں میان ہوتیں: (۱) بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنا۔ (۲) درود شریف پڑھنا
وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) دعا پڑھنا اس طرح:
بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِکَ۔^۱

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب پلانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دل کا طمینان جاتا رہتا ہے اور ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہیں
عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ۔ جس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض دعا مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے جیسے سورہ اخلاص، سورہ بقرہ، سورہ ناس صبح و شام
تین تین بار پڑھنے سے مخلوق کے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔

۱ سنن ابن ماجہ: ۵۹: (۱۰۱) باب الدعاء عند دخول المسجد، المكتبة الرحمانية

سبق نمبر ۱۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُوْنَ کَا تَرْجَمہ ہے: اور نہ تم پرستش کرو گے۔

(۲) ایک سنت

کل مسجد سے نکلنے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) درود شریف پڑھنا **وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ**۔ (۲) دعا پڑھنا اس طرح: **بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ**۔ **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ**۔ اور آج کا سبق سنت نمبر ۳) مسجد سے پہلے بایاں پیر نکالنا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب
نچوڑنا، یعنی کشید کرنا یا بنانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں
نکلتا بلکہ جو کام زندگی بھر کیا کرتا تھا وہی سرزد ہوتے ہیں، مثلاً ایک شخص کو کلمہ پڑھانے لگے
تو کہا کہ یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور مر گیا۔ نعوذ باللہ

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

بعض عبادت سے حاجت روائی میں مدد ملتی ہے۔ جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ
بندے کی حاجت کو پورا فرمادیتے ہیں۔

سبق نمبر ۱۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مَاَ اَعْبُدُ کا ترجمہ ہے: میرے معبود کی۔

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاَ اَعْبُدُ کا ترجمہ ہوا: اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔

(۲) ایک سنت

کل مسجد سے نکلنے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) دعا اس طرح پڑھنا: بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوۃُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔ (۲) مسجد سے پہلے بایاں
پیر نکالنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) پہلے داہنے پیر میں جو تیا چپل پہننا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب
نچرانا، یعنی کشید کرانا یا ہونا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ
مرتا ہے۔ ایک شخص کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو کہا کہ اس کلمہ سے کیا ہو گا، میں نے
تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اور مر گیا۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

نیکی و فرماں برداری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان و دینداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں
کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔

سبق نمبر ۱۱۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

لَكُمْ دِينُكُمْ کا ترجمہ ہے: تم کو تمہارا بدلہ ملے گا۔

(۲) ایک سنت

کل مسجد سے نکلنے کی یہ سنتیں بیان ہونیں:

(۱) پہلے بایاں پیر مسجد سے نکالنا۔ (۲) پہلے داہنے پیر میں جو تاپا چپل پہننا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) سونے کی سنتیں۔ باوضو سونا۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب پینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے جس سے قبولِ حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔

سبق نمبر ۱۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَلِیْ دِیْنِ کَا ترجمہ ہے: اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔

(۲) ایک سنت

کل یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) مسجد سے نکلنے وقت پہلے داہنے پیر میں جو تا یا چپل پہننا۔ (۲) سوتے وقت با وضو سونا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) جب اپنے بستر پر آئے تو اسے اپنے کپڑے کے گوشہ سے تین بار جھاڑے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب خریدنا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیائے فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بیزاری ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں۔

سبق نمبر ۱۱۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کا ترجمہ ہے: آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔

(۲) ایک سنت

کل سونے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) با وضو سونا۔ (۲) جب اپنے بستر پر آئے تو اسے اپنے کپڑے کے گوشہ سے تین بار جھاڑے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) سونے سے پہلے اپنے دو نمبرے کپڑے تبدیل کرنا سنت ہے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب کے دام کھانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان و طاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرماتے ہیں۔

سبق نمبر ۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا ترجمہ ہے: تمام مخلوقات کی شر سے۔

(۲) ایک سنت

کل سونے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) جب اپنے بستر پر آئے تو اسے اپنے کپڑے کے گوشہ سے تین بار جھاڑے۔ (۲) سونے سے پہلے اپنے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا سنت ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرمہ لگانا مرد و عورت دونوں کے لیے مسنون ہے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب لاد کر لانا، یعنی کسی کے لیے شراب لانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

ایمان و طاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کرنے سے مخلوق کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور زمین پر ان کو مقبولیت عطا کی جاتی ہے۔

سبق نمبر ۱۱۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَّ کَا ترجمہ ہے: اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آجاوے۔

(۲) ایک سنت

کلی سونے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں:

(۱) سونے سے پہلے اپنے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا سنت ہے۔ (۲) سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلوائی سرمہ لگانا مرد و عورت دونوں کے لیے مسنون ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رُو سونا مسنون ہے۔ پٹے لیٹنا کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے، کیوں کہ اس طرح شیطان سوتا ہے۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے شراب منگانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

گناہ کرنے سے بسا اوقات نیکیوں کے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

کامل الایمان نیک لوگوں کے حق میں قرآن پاک ہدایت و شفا ہے۔

سبق نمبر ۱۱۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا ترجمہ ہے: اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔

(۲) ایک سنت

کل سونے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلانی سرمہ لگانا مرد و عورت دونوں کے لیے مسنون ہے۔ (۲) سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رُوسونا مسنون ہے۔ پٹ لیٹنا کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہونا منع ہے، کیوں کہ اس طرح شیطان سوتا ہے۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ بِاَسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰی

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے جہاد شرعی سے بھاگ جانا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

بے حیائی کے کاموں سے طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھیں، جیسے کینسر اور ایڈز وغیرہ۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

شکر کرنے سے نعت میں اضافہ ہوتا ہے۔

سبق نمبر ۱۲۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

(۱) ترجمہ نماز

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ کا ترجمہ ہے: اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔

(۲) ایک سنت

کل سونے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں: (۱) سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رُوسونا مسنون ہے۔ چپٹ لیٹنا کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے، کیوں کہ اس طرح شیطان سوتا ہے۔ (۲) بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے: **اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰی**۔ اور آج کا سبق سنت نمبر (۳) اگر کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے اور آنکھ اُھل جائے تو **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ** تین بار پڑھ کر بائیں طرف تھکا کر دو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ۔

(۳) ایک کبیرہ گناہ

بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے رشوت کے معاملے میں پڑنا، مثلاً رشوت لینے دینے کا معاملہ طے کر ادینا۔

(۴) گناہ کے نقصانات

زکوٰۃ نہ دینے سے بارش بند ہو جاتی ہے۔

(۵) طاعت اور عبادت کے فوائد

آخرت میں صراطِ مستقیم کی صورتِ مثالی مثلِ پلِ صراط کے ہے۔ پس جس شخص نے دنیا میں صراطِ مستقیم پر استقامت کی یعنی شریعت پر خوب قائم رہا وہ پلِ صراط سے پلک جھکتے صحیح سالم گزر جائے گا۔

نوٹ: الحمد للہ ایک منٹ کے مدرسہ کے ۱۲۰ اسباق تین چلوں یعنی چار ماہ کے لیے ہو گئے، مساجد کے ائمہ حضرات اب یہ کریں کہ سبق نمبر اسے دوبارہ سنانا شروع فرمادیں۔ البتہ روزانہ ایک سنت کسی کتاب سے مثلاً ”گلزارِ سنت“ مؤلفہ حضرت مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے یا احقر کی کتاب ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں“ سے سنادیا کریں۔ ان ۱۲۰ اسباق میں الحمد للہ تعالیٰ نماز کی سنتیں، سو کر اٹھنے کی، بیت الخلاء کی، وضو کی، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی اور سونے کی اکثر سنتیں بیان ہو گئیں۔ لہذا جو سنتیں ان اسباق میں بیان نہیں ہوئیں مثلاً کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، اذان و اقامت کی سنتیں، سفر، نکاح، بیماری و عیادت اور موت کی سنتیں وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ کتب سے ایک ایک سنت روزانہ سنادیں، یعنی ایک سنت تین دن اور تین سنت ایک دن۔ اس طرح سال بھر میں اُمت کو ۳۶۰ سنن یاد ہو سکتی ہیں اور پوری زندگی سنت کے مطابق ڈھل سکتی ہے۔

بس ہر سبق میں ایک نئی سنت مذکورہ کتب سے سنادیں۔ باقی نمبرات مثلاً ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، عبادت و طاعت کے فوائد ہر سبق سے جوں کے توں سنادیں۔ اس طرح پورے سال ایک منٹ کا مدرسہ جاری رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم میں ایک منٹ کا مدرسہ جاری فرماویں۔

مدرسے اک منٹ کے اور یہ انوار سنت کے

جہاں میں عام ہو جائیں یہ سب گلزار سنت کے

اور اُمتِ مسلمہ کے لیے اس کا نفع عام و تمام فرماویں اور اس کو شرف قبول عطا فرماویں۔

أَمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

راقم الحروف: احقر محمد اختر عفا اللہ عنہ۔ ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ مطابق ۲۳ دسمبر ۱۹۸۹ء بروز یکشنبہ

بوقت سوا بارہ بجے شب

آج کل لوگ دینی مجالس میں جانے، دینی کتابیں پڑھنے اور طویل وعظ سننے سے گھبراتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دینی علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے برسوں ہو جاتے ہیں مگر نمازوں کی تسبیحات اور دعاؤں اور اذکار کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا جس سے نماز میں دل نہیں لگتا نیز نمازیں سنت کے مطابق بھی نہیں ہوتیں۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم کو بھی عملی مشق نہ ہونے سے سنتوں کا استحضر نہیں ہوتا۔

شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ محی النہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے استفادہ کرتے ہوئے "ایک منٹ کا مدرسہ" نامی یہ کتاب ترتیب دی۔

اس کتاب میں روزانہ کے سبق کے لحاظ سے ہر دن کے لیے (۱) نماز کی سورتوں، دعاؤں اور تسبیحات کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ سکھایا گیا ہے۔ (۲) ایک سنت بتائی گئی ہے۔ (۳) کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ اور اس کے دنیا و آخرت کے نقصانات بتائے گئے ہیں۔ (۴) ایک نیکی اور اس کے دنیا و آخرت کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ مساجد کے ائمہ حضرات اگر کسی بھی نماز کے بعد ایک منٹ کے لیے اس کتاب کا درس دیں تو ایک سال میں تین مرتبہ ان سنتوں کا مذاکرہ ہو سکتا ہے۔

www.khanqah.org

ناشر

مکتبہ خانہ مظہری

مکتبہ خانہ مظہری، ۲۷، روٹ ۱۱، کراچی۔ فون: ۳۳۹۹۹۱۱

